AIOU

داخلہ بہار 2026ء

پراسپیکٹس

- ایف اے (جنرل)
- ایف اے (اوپن کورسز)
- آئی کام

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

www.aiou.edu.pk

پراسپیکٹس

سمسٹر: بہار 2026ء

داخلے سال میں دو مرتبہ بہار اور خزاں سمسٹرز بالترتیب جنوری اور جولائی میں ہوتے ہیں۔

ہر سمسٹر میں داخلہ فیس بروقت جمع کروانا طالب علم کی ذمہ داری ہے۔

ہائر سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ (انٹرمیڈیٹ) نئی تعلیمی پالیسی کے تحت

- انٹرمیڈیٹ (جنرل)
- انٹرمیڈیٹ (آئی کام)
- انٹرمیڈیٹ پروگرام کے اوپن کورسز

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنیشنل کولیبریشن اینڈ ایکسچینج

وائس چانسلر کا پیغام

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کا شمار اس وقت دنیا کی میگا (سب سے بڑی) یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ یہ یونیورسٹی بہت سی منفرد حیثیتوں کے حوالے سے دنیا بھر میں ممتاز مقام رکھتی ہے، یہ اس یونیورسٹی کی انفرادیت ہے کہ اس کا دائرہ کار پاکستان اور دنیا کے بہت سے ممالک میں ہے۔ بیرون ملک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نہ صرف وہاں مقیم پاکستانیوں کو بلکہ دیگر شہریت کے حامل طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ ملک کی واحد یونیورسٹی ہے جس میں مرد/عورت، عمر اور علاقے کی کوئی قید نہیں۔ ملک بھر کے ہر حصے سے ہر عمر کے افراد اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ وطن عزیز کے دیہاتوں، قصبوں اور دور افتادہ علاقوں میں مقیم افراد کو جہاں روایتی تعلیم کے مواقع کم ہیں یا ایسی خواتین کو جو سماجی پابندیوں کے سبب سکول/کالج میں جانے سے قاصر ہیں یا وہ ملازم پیشہ افراد جو اپنی ملازمتی ترقی کے لیے تعلیمی استعداد بڑھانے کے خواہش مند ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اِن سب کو تعلیمی سہولتیں مہیا کر کے یہ فریضہ بہ طریق احسن سرانجام دے رہی ہے۔ حالیہ یونیورسٹی کے مجموعی نظام کو ڈیجیٹلائزڈ (Digitalized) کر دیا گیا ہے، مزید برآں طلبہ کو تمام سہولتیں آن لائن بھی دستیاب ہوں گی۔

آپ کی تعلیم کی ترقی کے لیے کوشاں

پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود

وائس چانسلر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

اہم اطلاع

۱۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ تمام ڈگریاں ہائیر ایجوکیشن کمیشن (HEC) سے منظور شدہ ہیں۔

۲۔ تمام سرٹیفکیٹ مثلاً، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، اوپن کورسز انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن (IBCC) سے منظور شدہ ہیں۔

۳۔ دیگر ممالک کے اپنے قوانین اور پالیسیاں ہوتی ہیں۔ طلبہ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کسی بھی تعلیمی پروگرام میں داخلہ لینے سے پہلے اپنے متعلقہ محکمہ / وزارت / ملک اور ادارے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کی قبولیت کے بارے میں تصدیق ضرور کرلیں۔

یادرکھیں!

1- علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے داخلے سال میں دو مرتبہ ہوتے ہیں:۔
☆ سمسٹر بہار کے داخلے ماہ **جنوری/ مارچ** میں ہوتے ہیں جب کہ سمسٹر خزاں کے داخلے ماہ **جولائی/ستمبر** میں ہوتے ہیں۔
2- سمسٹر بہار (جنوری/ مارچ) میں اگر آپ پہلا داخلہ لے رہے ہیں تو دوسرے سمسٹر خزاں کی داخلہ فیس (جولائی/ستمبر) میں جمع کروانا ہوگی۔
3- سمسٹر خزاں (جولائی/ستمبر) میں اگر آپ پہلا داخلہ لے رہے ہیں تو دوسرے سمسٹر بہار کی داخلہ فیس (جنوری/ مارچ) میں جمع کروانا ہوگی۔
4- جاری طلبہ (Continuing Students) یونیورسٹی ویب سائیٹ(http://enrollment.aiou.edu.pk) پر online کورس رجسٹر کر کے فیس پراسپیکٹس میں درج طریقہ کار کے مطابق جمع کرا سکتے ہیں۔

Online انرولمنٹ کرنے کا طریقہ کار مندرجہ ذیل ہے۔

1- ویب سائیٹ(http://enrollment.aiou.edu.pk)وزٹ کریں۔
2- USER ID میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی(Student ID) لکھیں اور پاس ورڈ درج کریں۔
3- اپنے کورسز کا انتخاب کریں اور چالان فارم کا پرنٹ نکال لیں۔

سمسٹر شیڈول

نمبر شمار	سرگرمی	سمسٹر بہار	سمسٹر خزاں
1	داخلہ	جنوری ۔ مارچ	جولائی ۔ ستمبر
2	ترسیل کتب	مارچ ۔ مئی	ستمبر ۔ نومبر
3	مطالعہ کی مدت	مئی ۔اگست	نومبر ۔ فروری
4	امتحانات	ستمبر ۔ اکتوبر	مارچ ۔ اپریل
5	نتائج	دسمبر	جون

نوٹ: شیڈول کی مقرر کردہ تاریخوں کی معلومات کے لئے Directorate of International Colaboration & Exchange سے رابطے میں رہیں۔

Minimum and Maximum Duration/Semesters: Programs on ODL Mode

Sr. No.	Degree Level	Minimum Duration	Maximum Duration
1	Matric /FA	2 years / 4 semesters	5 years
2	Certificate (6 Months)	6 Months / 1 Semester	1 Year
3	All Postgraduate Diplomas (1 Year)	1 Year / 2 Semesters	3 Years
4	Associate Degree (2-years)	2 years / 4 Semesters	4 Years
5	BEd (1.5 Years)	1.5 Years/ 3 Semesters	3 Years
	BEd (2.5 Years)	2.5 Years / 5 Semesters	5 Years
6	BS/BBA/BEd (4-years)	4 Years / 8 Semesters	8 Years

Note: Maximum time duration includes semester freeze period.

نوٹ: سمسٹر بہار 2021 سے ہائر سیکنڈری سکول پروگرام پاس کرنے کا دورانیہ کم از کم دو سال (چار سمسٹر) ہے اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال (10 سمسٹرز) ہے اگر طالب علم پروگرام کی تکمیل پانچ (5) سال میں نہیں کر پاتا تو اسے مذکورہ پروگرام میں دوبارہ سے داخلہ لینا ہوگا۔

فہرست

		صفحہ نمبر
—	علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا مختصر تعارف	01
—	داخلہ لینے کا طریقہ کار اور داخلہ فارم یونیورسٹی بھیجنے کا طریقہ	02
1-	**انٹرمیڈیٹ پروگرام کا تعارف، شرائط، معلومات و ہدایات (مطلوبہ کریڈٹ آورز = 48)**	03
	1.1- انٹرمیڈیٹ (جنرل گروپ)	04
	1.2- انٹرمیڈیٹ (کامرس گروپ)	05
	1.3- انٹرمیڈیٹ پروگرام کے اوپن کورسز	06
2-	**طریقہ تعلیم کے اہم اجزاء**	08
3-	**فیس**	09
	3.1- فیس جمع کرانے کا طریقہ	09
4-	**اہم معلومات**	11
5-	**داخلہ، کتابیں، ڈیٹ شیٹ، رول نمبر سلپ اور رزلٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اہم فون نمبرز اور پتے**	12

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا مختصر تعارف

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی (جس کا مین کیمپس اسلام آباد میں ہے) کا شمار اس وقت دنیا کی چار میگا (سب سے بڑی) یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، 1974ء میں پارلیمنٹ کے ایکٹ (XXXIX) کے تحت قائم ہوئی۔ اُس وقت یہ دنیا کی دوسری اور ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی تھی مگر اب دنیا میں فاصلاتی نظامِ تعلیم پر مبنی متعدد یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں۔

پاکستان میں اوپن یونیورسٹی کے قیام کا بنیادی مقصد فاصلاتی نظامِ تعلیم کے ذریعے ان لوگوں کو جو بوجوہ رسمی تعلیم سے استفادہ نہیں کر سکے یا جن کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا تھا، ان کے گھروں کی دہلیز پر تعلیمی سہولیات مہیا کرنا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، وطنِ عزیز کے دیہاتوں، قصبوں اور دور افتادہ علاقوں میں مقیم افراد کو جہاں روایتی تعلیم کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں یا ایسی خواتین کو جو سماجی پابندیوں کے سبب سکول/کالج میں جانے سے قاصر ہیں یا وہ ملازم پیشہ افراد جو اپنی ملازمتی ترقی کے لیے تعلیمی استعداد بڑھانے کے خواہش مند ہیں، ان سب کو تعلیمی سہولتیں مہیا کر کے یہ فریضہ بہ طریق احسن انجام دے رہی ہے۔

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی غیر رسمی طریقہ تعلیم کے ذریعے مختلف تعلیمی پروگرام پورے ملک میں عام کر کے قومی یونیورسٹی کی صورت میں نمایاں ہوئی ہے۔ فاصلاتی نظام تعلیم روایتی اور رسمی نظام تعلیم کے برعکس متنوع بھی ہے اور ہمہ گیر بھی۔ طلبہ اس کے ذریعے میّسر وقت میں سہولت کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں طبع شدہ کورسز اور مجوزہ کتب کے علاوہ ٹیوٹوریل، گروہی سرگرمیاں اور دیگر ملٹی میڈیا سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں۔

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنیادی تعلیم سے لے کر پی ایچ ڈی کی سطح تک کے پروگرام پیش کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کے تدریسی اور انتظامی کام کی مناسب اور موزوں ترویج و اشاعت کے لیے ملک کے مختلف مقامات پر 50 سے زائد علاقائی دفاتر بھی کام کر رہے ہیں نیز طلبہ کی رہنمائی کے لیے مختلف شہروں میں رابطہ دفاتر بھی قائم کئے گئے ہیں۔ یونیورسٹی نے ملک بھر میں مطالعاتی مراکز قائم کیے ہیں جہاں فاصلاتی نظام تعلیم کے طلبہ اپنے ٹیوٹرز سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اس کے جملہ علاقائی دفاتر تعلیمی سال کے دوران نصابی اور تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور مختلف نوعیت کی علمی، ادبی اور قومی تقریبات کے انعقاد کا اہتمام کرتے ہیں جن میں ہمارے طلبہ و اساتذہ کے ساتھ ساتھ علاقے کے معزز و سرکردہ اراکین اور صاحبانِ علم و دانش شرکت کرتے ہیں۔

اوپن یونیورسٹی سمسٹر سسٹم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ طلبہ کا داخلہ سال میں دو بار سمسٹر بہار اور خزاں میں ہوتا ہے۔ انڈر گریجویٹ طلبہ کے لیے دونوں سمسٹر میں داخلے ہوتے ہیں جبکہ پوسٹ گریجویٹ سطح پر داخلہ سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ طلبہ کو یونیورسٹی کی اپنی تیار کردہ کتابیں بھجوائی جاتی ہیں، ان کتابوں کے ہمراہ تقویتی مواد بھی بھجوایا جاتا ہے۔ اکثر کورسز میں ریڈیو اور ٹی وی پروگرامز کے ذریعے بھی تعلیمی اور تدریسی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ طلبہ کی رہنمائی کے لیے ملک بھر سے جز وقتی ٹیوٹرز کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں نیز ہر طالب علم کو مراسلت اور ٹیوٹوریل میٹنگ کے ذریعے بھی تدریسی معاونت فراہم کی جاتی ہے۔

یونیورسٹی میں سائنس کے طلبہ کے لئے ''یونیورسٹی سائنس کمپلیکس'' کا قیام عمل میں لایا گیا جس میں سائنس کے تمام ڈسپلنز کے ریسرچ اسکالرز کے لئے بین الاقوامی معیار کی حامل جدید سائنسی تجربہ گاہوں کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں یونیورسٹی مرکزی لائبریری اور سٹوڈنٹس ہوسٹل میں انٹرنیٹ لیب کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے تا کہ یونیورسٹی کے اساتذہ و طلبہ اپنی علمی و تحقیقی کاوشوں کو جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکیں۔

داخلہ لینے کا طریقہ کار اور داخلہ فارم یونیورسٹی بھیجنے کا طریقہ کار

پہلے سمسٹر میں Online داخلہ لینے کا طریقہ کار https://www.youtube.com/watch?v=_14IPtu4vnk

-1 ویب سائیٹ(https://aiou.edu.pk/oas-fresh-admission)وزٹ کریں۔ -2 (Application for New Admission ⇨Click here)لنک پر کلک کریں۔

-3 ای میل/موبائل فون نمبر لکھ کر رجسٹر کریں۔ -4 اپنے رجسٹرا اکاؤنٹ میں Login کریں۔ -5 داخلہ فارم میں درکار تمام کوائف درج کریں۔

-6 داخلہ فارم میں اپنا نام، والد کا نام اور تاریخ پیدائش میٹرک کی سند کے مطابق درج کریں۔غلط اندراج کی صورت میں درخواست دہندہ خود ذمہ دار ہوگا۔

جاری طلبہ (Continuing Students) کی انرولمنٹ سمسٹر کا (نیا داخلہ) کا طریقہ https://www.youtube.com/watch?v=d52VGci6XNQ

-1 ویب سائیٹ(https://aiou.edu.pk/cms-continuing-students)وزٹ کریں۔

-2 (https://enrollment.aiou.edu.pk/) ⇨ "CMS for Continuing Students"پر کلک کریں۔

-3 USER IDوالے کالم میں اپناStudent ID لکھیں۔اور پاس ورڈ درج کریں۔ -4 اپنے کورسز کا انتخاب کریں اور چالان فارم پرنٹ کر کے فیس جمع کروائیں۔

-5 جاری طلبہ ایک سمسٹر میں زیادہ سے زیادہ 21 کریڈٹ آورز میں داخلہ لے سکتا ہے(ایڈیشنل سمسٹر 99 پر کلک کریں)

فیس جمع کروانے کا طریقہ https://www.youtube.com/watch?v=A33WSSY9pbA&t=9s

-1 ویب سائیٹ (olpay.aiou.edu.pk)وزٹ کریں۔

-2 چالان نمبر درج کریں اور سرچ"Search" کے بٹن پر کلک کریں۔

-3 دی گئی معلومات کا موازنہ اپنے چالان فارم کے ساتھ کریں اور درست ہونے کی صورت میں "Submit Fee"والے بٹن پر کلک کریں۔

-4 چالان نمبر درج کریں اور سرچ کے بٹن پر کلک کریں۔

-5 دی گئی معلومات کا موازنہ اپنے چالان فارم کے ساتھ کریں اور درست ہونے کی صورت میں "Submit Fee"والے بٹن پر کلک کریں۔

-6 کریڈٹ کارڈ/ڈیبٹ کارڈ نمبر، کارڈ ہولڈر کا نام، ایکسپائری کی تاریخ اور CVV کوڈ (جو کارڈ کے پچھلے حصے پر درج ہوتا ہے) کا اندراج کریں۔

-7 "Pay Now"کے بٹن پر کلک کریں۔

-8 فیس کے جمع ہونے اور آر ڈی آئی ڈی کا نوٹیفکیشن موصول ہوگا۔

-9 نیچے دی گئی جگہ پر آرڈر آئی ڈی اور ٹرانزیکشن کی تاریخ کا اندراج کریں۔

-10 اپنے داخلے کی تصدیق ہونے تک آرڈر آئی ڈی کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھیں۔

1- انٹرمیڈیٹ پروگرام کا تعارف، شرائط، معلومات وہدایات (مطلوبہ کریڈٹ آورز = 48)

ہائرسیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ (انٹرمیڈیٹ جنرل، آئی کام پروگرامز)

ایف اے کی سطح پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی درج ذیل عمومی گروپس پیش کر رہی ہے۔

1.1۔ جنرل گروپ   **1.2۔ آئی کام گروپ**

شرائط داخلہ انٹرمیڈیٹ (جنرل گروپ اور آئی کام پروگرام)

(i) ہائرسیکنڈری سکول پروگرامز میں داخلے کے لیے طالب علم کا میٹرک کے تمام لازمی اور اختیاری مضامین میں پاس ہونا ضروری ہے۔ کسی لازمی یا اختیاری مضمون میں ایف (F) گریڈ حاصل کرنے والے طلبہ ہائرسیکنڈری سکول پروگرام میں داخلہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔

(ii) ہائرسیکنڈری سکول پروگرام میں داخلہ کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ میٹرک کی (یونیورسٹی/بورڈ سے جاری) مارکس شیٹ یا سند کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی داخلہ فارم کے ساتھ اپلوڈ کریں۔ (مارکس شیٹ یا سند کی تصدیق شدہ کاپی اپلوڈ نہ ہونے کی صورت میں داخلہ نہیں ہوگا)۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ سے لیا گیا پرنٹ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔

(iii) غیر مسلم طلبہ کے لیے اسلامیات لازمی کی جگہ اخلاقیات کا مضمون لازمی ہے۔ مسلم طلباء/طالبات اخلاقیات اور غیر مسلم طلباء/طالبات اسلامیات بطور نصف 3 کریڈٹ کورس نہیں لے سکتے۔

(iv) یونیورسٹی ہذا سے میٹرک پاس کرنے والے طلباء/طالبات پرویژنل سرٹیفکیٹ یا سند کی تصدیق شدہ کاپی فارم کے ساتھ اپلوڈ کریں۔ (رزلٹ کارڈ پر داخلہ ممکن نہیں ہے)۔

(v) صرف ثانویہ عامہ/ فاضل عربی/ اردو وغیرہ کے حامل امیدواران کے لیے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین IBCC کا جاری کردہ مساوی سرٹیفکیٹ (Equivalence Certificate) داخلہ فارم کے ہمراہ اپلوڈ کرنا لازم ہے بصورت دیگر داخلہ ممکن نہ ہوگا۔

(vi) طالب علم کا پہلے سمسٹر میں داخلہ پرویژنل تصور ہوگا اور طالب علم اپنی میٹرک کی سند کی کاپی IBCC سے تصدیق کروا کر اپنے CMS اکاؤنٹ میں اپلوڈ کرنے کا پابند ہوگا۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں طالب علم کو سند جاری نہیں کی جائے گی۔

معلومات وہدایات (برائے جنرل، آئی کام پروگرامز)

داخلہ فارم میں پروگرام کا نام اور گروپ لازمی لکھیں۔

(i) سمسٹر بہار 2021 سے ہائرسیکنڈری سکول پروگرام پاس کرنے کا دورانیہ کم از کم دو سال (چار سمسٹر) ہے اور زیادہ سے زیادہ پانچ (5) سال ہے اگر طالب علم پروگرام کی تکمیل پانچ (5) سال میں نہیں کر پاتا تو اسے مذکورہ پروگرام میں دوبارہ سے داخلہ لینا ہوگا۔

(ii) داخلہ سال میں دو مرتبہ بہار اور خزاں بالترتیب جنوری اور جولائی میں کیا جاتا ہے۔

(iii) ہائرسیکنڈری سکول (انٹرمیڈیٹ) کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لئے طالبِ علموں کو **48 کریڈٹ آورز** پاس کرنے ہوتے ہیں۔

(iv) طالب علم زیادہ سے زیادہ ایک سمسٹر میں 18 کریڈٹ آورز کے کورسز میں داخلہ لے سکتا ہے۔

(v) داخلہ ہو جانے کے بعد نہ تو داخلہ منسوخ ہوگا اور نہ ہی فیس واپس ہوگی۔

(vi) یونیورسٹی نے اپنے تدریسی دورانیے کو چھ ماہ کی مدت میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہر چھ ماہ کے عرصہ کو سمسٹر کہتے ہیں جس کے دوران طلبہ پڑھتے ہیں، امتحانی مشقیں حل کرتے ہیں امتحان کی تیاری کرتے ہیں اور امتحان میں شریک ہوتے ہیں۔

نوٹ: اردو، انگریزی اور شماریات کے حصہ دوئم سے پہلے ان مضامین کے حصہ اول میں داخلہ لینا ضروری ہے۔ اسی طرح ریاضی کے حصہ اول، دوئم اور سوئم میں بالترتیب داخلہ لیں۔

داخلہ فارم پُر کرتے وقت طلباء و طالبات اپنی میٹرک کی سند کے مطابق اپنے نام/ولدیت اور تاریخ پیدائش کا صحیح اندراج انتہائی احتیاط سے کریں۔

1.1- ہائر سیکنڈری سکول سر ٹیفکیٹ (جنرل گروپ)

پہلا سمسٹر (مطلوبہ کریڈٹ آورز=12)

کوڈ	کورس ٹائٹل	میڈیم	کریڈٹ آورز
316	اسلامیات **یا**	اردو	3
319	اخلاقیات (صرف غیر مسلم طلباء وطالبات کے لئے)	اردو	3
317	مطالعہ پاکستان	اردو	3
363	اردو (حصہ اول)	اردو	3
386	انگریزی (حصہ اول) Compulsory English - I	انگلش	3

پہلے سمسٹر کی ٹوٹل فیس (مع رجسٹریشن، داخلہ) -/400 امریکن ڈالر

دوسرا سمسٹر (مطلوبہ کریڈٹ آورز=12)

کوڈ	کورس ٹائٹل	میڈیم	کریڈٹ آورز
364	اردو (حصہ دوئم)	اردو	3
387	انگریزی (حصہ دوئم)Compulsory English-II	انگلش	3
312	علم تعلیم	اردو	6

تیسرا سمسٹر (مطلوبہ کریڈٹ آورز=12)

دیئے گئے اختیاری مضامین کی فہرست میں سے کسی ایک Option کا انتخاب کریں۔

Option.I: کوئی سے چھ کریڈٹ آورز کے دو کورسز

Option.II: چھ کریڈٹ آور کا ایک کورس اور تین کریڈٹ آورز کے دو کورسز

Option.III: تین کریڈٹ آورز کے چار کورسز

چوتھا سمسٹر (مطلوبہ کریڈٹ آورز=12)

دیئے گئے اختیاری مضامین کی فہرست میں سے کسی ایک Option کا انتخاب کریں۔

Option.I: کوئی سے چھ کریڈٹ آورز کے دو کورسز

Option.II: چھ کریڈٹ آور کا ایک کورس اور تین کریڈٹ آورز کے دو کورسز

Option.III: تین کریڈٹ آورز کے چار کورسز

نوٹ: اردو، انگریزی اور شماریات کے حصہ دوئم سے پہلے ان مضامین کے حصہ اول میں داخلہ لینا ضروری ہے۔ اِسی طرح ریاضی کے حصہ اول، دوئم اور سوئم میں بالترتیب داخلہ لیں۔

اختیاری مضامین

کوڈ	کورس ٹائٹل	میڈیم	کریڈٹ آورز
301	دفتری اردو	اردو	3
303	اقبالیات	اردو	6
305	دیہی ترقی	اردو	3
308	جنرل سائنس	اردو	6
309	عربی	عربی	6
311	کھاتہ نویسی ومحاسبی	اردو	6
315	معاشیات	اردو	6
321	تاریخ مسلمانان برصغیر	اردو	6
322	دفتری دستور العمل	اردو	3
330	بچے کی نگہداشت	اردو	3
343	اسلامیات (اختیاری)	اردو	6
345	گھریلو انتظام وآرائش	اردو	3
346	اصول تجارت	اردو	6
347	بینکنگ	اردو	3
349	پودوں کی حفاظت	اردو	3
356	غذا اور غذائیت	اردو	3
357	صحت اور غذائیت	اردو	3
360	Information Technology Applications	اردو	3
361	فارسی	اردو	6
376	انسانی حقوق	اردو	6

2nd Semester

Course Code	Course Title	Credit Hours
1339	Basics of Accounting	3
1345	Principles of Commerce	3
1347	Commercial Geography	3
1349	Introduction to Business Math	3

3rd Semester

Course Code	Course Title	Credit Hours
387	Compulsory English-II	3
364 399	Urdu-II Or Sindhi + Easy Urdu-II (Only for Sindhi Students)	3 3
1340	Business Accounting	3
1346	Essentials of Commerce	3

4th Semester

Course Code	Course Title	Credit Hours
322	Secretarial Practice	3
347	Banking	3
1348	Introduction to Economics	3
1350	Introduction to Business Statistics	3

389	قرآن حکیم (ترجمہ)		اردو	6
394*	شماریات (حصہ اول)	Statistics - I	انگلش	3
395	شماریات (حصہ دوم)	Statistics - II	انگلش	3
398**	سندھی + آسان اردو (حصہ اول)		سندھی	3
399	سندھی + آسان اردو (حصہ دوئم)		سندھی	3
1307***	ریاضی (حصہ اول)	Mathematics - I	انگلش	3
1308	ریاضی (حصہ دوم)	Mathematics - II	انگلش	3
1309	ریاضی (حصہ سوم)	Mathematics - III	انگلش	3

* کورس کوڈ **394** کے ساتھ کوڈ **395** کا انتخاب لازمی ہے۔

** کورس کوڈ **398** کے ساتھ کوڈ **399** کا انتخاب لازمی ہے۔

*** کورس کوڈز **1307** کے ساتھ کوڈ **1308،1309** کا انتخاب لازمی ہے۔

1.2- آئی کام (کامرس گروپ)

I.Com (Commerce Group) (تمام سمسٹر اور کورسز لازمی ہیں)

1st Semester

Course Code	Course Title	Credit Hours
316 319	Islamiat Or Ethics (For Non-Muslim Students only)	3 3
317	Pakistan Studies	3
363 398	Urdu-1 Or Sindhi+Easy Urdu-I (Only for Sindhi Students)	3 3
386	Compulsory English-I	3

پہلے سمسٹر کی ٹوٹل فیس (مع رجسٹریشن، داخلہ) -/400 امریکن ڈالر

1.3 - انٹرمیڈیٹ پروگرام کے اوپن کورسز

تعارف

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مختلف سطح پر مختلف سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ، اور ڈگری پروگرامز پیش کر رہی ہے۔اس کے علاوہ، یونیورسٹی متعلقہ طلباء کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انفرادی کورسز بھی پیش کرتی ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم یا پیشہ ورانہ کیریئر کے حصول کے لیے مختلف ضروریات کو پورا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ان طلباء میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن ان تک محدود نہیں:

☆ وفاق المدارس کے طلباء جنہیں ایچ ای سی سے مساوات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے اضافی کورسز کی ضرورت ہے۔

☆ وہ طلباء جو انفرادی کورسز کا خود مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی خاص مضمون کے بارے میں اپنے علم اور سمجھ میں اضافہ ہو سکے۔

☆ پریکٹیشنرز جنہیں اپنے پیشے میں سبقت حاصل کرنے کے لیے ایک خاص کورس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔

☆ وہ طلباء جنہیں کسی خاص ڈگری پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے ضرورت کے طور پر اضافی کورسز پڑھنے کی ضرورت ہے۔

☆ وفاق المدارس کے طلباء جنہوں نے ثانویہ خاصہ پاس کیا ہوا ہے اور IBCC سے مساوی سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں وہ IBCC کی ہدایت کے مطابق کورسز میں داخلہ لیں۔

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اوپن کورسز کے ذریعے تمام طلباء کو انٹرمیڈیٹ کے لازمی اور اختیاری کورسز پیش کر رہی ہے تاکہ وہ اپنی پڑھائی یا پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران اپنی مطلوبہ ضروریات کو پورا کر سکیں۔تاہم ان طلبہ کو کسی بھی صورت میں ایف اے کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔صرف کورس سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔

اوپن کورسز میں داخلہ صرف آن لائن ہوگا۔

Course Code	Course Title	Credits
301	Daftri Urdu	3
303	Iqbaliat	6
305	Rural Development	3
308	General Science	6
309	Arabic	6
311	Book Keeping and Accountancy	6
312	Education	6
315	Economics	6
316	Islamiat	3
317	Pakistan Studies	3
319	Ethics (For Non-Muslims only)	3
321	Muslim History of Sub-Continent	6
322	Secretarial Practice	3
330	Child Care and Development	3
343	Islamiat (E)	6
345	Home Management & Home Furnising	3
346	Principles of Commerce	6
347	Banking	3
349	Plant Protection	3
356	Food and Nutrition	3
357	Health and Nutrition	3
360	Information Technology	3
361	Persian	6

اہلیت (Eligibility)

(i) ہائر سیکنڈری سکول پروگرامز (اوپن کورسز) میں داخلے کے لیے طالب علم کا میٹرک کے تمام لازمی اور اختیاری مضامین میں پاس ہونا ضروری ہے۔

(ii) مدارس کے طلباء جنہوں نے ثانویہ عامہ پاس کیا ہو وہ میٹرک کے مخصوص کورسز پاس کر کے IBCC سے میٹرک کے مساوی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ہائر سیکنڈری سکول (اوپن کورسز) میں داخلے کے اہل ہیں۔

اسکیم آف اسٹڈیز (Scheme of Studies)

مندرجہ بالا کورسز میں سے ہر ایک کو علیحدہ سرٹیفکیٹ کورس کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام کا دورانیہ 06 ماہ (1 سمسٹر) ہوگا جس میں فی سمسٹر کورس کا زیادہ سے زیادہ بوجھ 12 کریڈٹ آورز ہوگا۔ سمسٹر 16-18 ہفتے کا دورانیہ۔ ذریعہ تعلیم انگریزی/اردو ہوگا اور اسے ODL موڈ پر پڑھایا جائے گا۔

درسی مواد (Study Material) کی ترسیل

طلباء کو درسی مواد کوریئر سروس کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔ طلباء یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.aiou.edu.pk/books پر دستیاب مطالعاتی مواد بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

تشخیص (Assessment)

پروگرام کے اجزاء درج ذیل ہیں:

(i) ہر 3 کریڈٹ آور کورس کی دو اسائنمنٹس اور 06 کریڈٹ آور کورسز کی 4 اسائنمنٹس ہوں گی۔

(ii) فائنل امتحان ہر سمسٹر کے اختتام پر لیا جائے گا جس میں طلباء کو ہر کورس/موضوع کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے فائنل امتحان میں شرکت کرنا ہوگی اور 40% پاسنگ نمبر حاصل کرنا ہوں گے۔

(iii) کورس کا نتیجہ مرتب کرنے کے لیے امتحانی مشقوں اور آخری امتحان کی کل 100 نمبروں کی تقسیم بالترتیب 70:30 کی نسبت سے ہوگی جبکہ امتحانی مشقوں اور آخری امتحان میں مجموعی طور پر 40% نمبر لینا لازمی ہیں۔

363	Urdu-I	3
364	Urdu-II	3
376	Human Rights	6
386	Compulsory English-I	3
387	Compulsory English-II	3
389	Quran-e-Hakeem	6
390	Hadith	6
391	Fiqh	6
392	Usull-ul-Fiqh	6
394	Statistics-I	3
395	Statistics-II	3
398	Sindhi+Easy Urdu-I	3
399	Sindhi+Easy Urdu-II	3
1307	Mathematics-I	3
1308	Mathematics-II	3
1309	Mathematics-III	3
1339	Basic of Accounting	3
1340	Business Accounting	3
1345	Principles of Commerce	3
1346	Essentials of Commerce	3
1347	Commercial Geography	3
1348	Introduction to Economics	3
1349	Introduction to Business Math	3
1350	Introduction to Business Statistics	3

2- طریقہ تعلیم کے اہم اجزاء

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بیشتر کورسز اردو زبان میں ہیں لیکن انگریزی میں پیش کردہ کورسز کی تعداد بھی کم نہیں۔ طلباء اپنے کورسز سے متعلق امتحانی پرچے اردو، انگلش دونوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں دے سکتے ہیں سوائے اردو، انگلش، عربی اور فارسی کے، یونیورسٹی ٹرانسلیشن فراہم نہیں کرے گی۔ مزید معلومات کے لیے **ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنیشنل کولیبوریشن اینڈ ایکسچینج** سے رجوع کریں۔ یونیورسٹی کے طلبہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اس لئے انہیں فاصلاتی / آن لائن طریقہ تعلیم کے اصولوں کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے جس میں تعلیم کا انحصار مندرجہ ذیل اجزاء پر ہوتا ہے:

- (i) درسی مواد
- (ii) امتحانی مشقیں
- (iii) جز وقتی اساتذہ سے راہنمائی
- (iv) ریڈیو/ ٹیلی ویژن پروگرام
- (v) آخری امتحان
- (vi) کورس کا نتیجہ

(i) درسی مواد

طلبہ کے لئے درسی مواد خود آموزی کے اصول پر تیار کیا جاتا ہے۔ ہر کورس میں درسی مواد کے یونٹوں کی تعداد مقرر ہے۔ یونٹ میں ایک ہفتے کا درسی کام ہوتا ہے۔ ہر یونٹ کے شروع میں اس کے مقاصد پھر اسی ترتیب سے یونٹ کے مختلف موضوعات اور ہر موضوع کے بعد خود آزمائی (اپنا امتحان آپ) کے سوالات ہوتے ہیں۔ ان سوالات سے طلبہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کورس کو کس حد تک سمجھا ہے۔ طلبہ کو درسی مواد بذریعہ ڈاک روانہ کیا جاتا ہے۔

(ii) امتحانی مشقیں

ہر کورس کے لئے اس کی نوعیت کے اعتبار سے امتحانی مشقوں کی ایک مخصوص تعداد مقرر کی گئی ہے۔ طلبہ کے لئے کورس کے دوران یہ امتحانی مشقیں حل کر کے بروقت آن لائن اپلوڈ کرنا لازمی ہے۔ ٹیوٹر تصحیح اور جانچ پڑتال کے بعد یہ امتحانی مشقیں طالب علم کو آن لائن واپس بھیج دیتا ہے تاکہ طلبہ اپنی کارکردگی سے باخبر رہیں۔ ان مشقوں کے نمبر آخری امتحان میں حاصل کردہ نمبروں میں شامل کر کے نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے۔ (ایک مکمل کورس کے لئے چار اور نصف کورس کے لئے دو امتحانی مشقیں حل کرنا ہوتی ہیں۔ فنی، عملی کورسوں میں تعداد مختلف ہوسکتی ہے۔

(iii) اساتذہ سے راہنمائی/ ٹیوٹوریل میٹنگز

آن لائن ٹیوٹوریل میٹنگز کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں اساتذہ طلبہ کی رہنمائی کے لئے موجود ہوتے ہیں۔ ان کلاسز کا شیڈول طلبہ کو پہلے سے فراہم کر دیا جاتا ہے تاکہ وقت مقررہ پر ٹیوٹوریل میٹنگز میں آ کر اپنی مشکلات کے حل میں اساتذہ سے مدد لے سکیں۔ ٹیوٹوریل میٹنگز میں حاضری لازمی نہیں لیکن مفید ضرور ہے۔

(iv) ریڈیو، ٹیلی ویژن پروگرام

درسی مواد کو اگرچہ ہر لحاظ سے مکمل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاہم مزید وضاحت اور تقویت کے لئے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ان پروگراموں کے اوقات کی اطلاع طلبہ کو پہلے سے فراہم کر دی جاتی ہے۔یونیورسٹی کے تمام طلبہ کی راہنمائی کے لئے ہر اتوار کو ریڈیو پاکستان سے ''جامعہ نامہ'' کا خصوصی پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔اس کا شیڈول (نشر ہونے کے اوقات) درسی کتب کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔

(v) آخری امتحان

سمسٹر کے اختتام پر آخری امتحان آن لائن لیا جاتا ہے۔اس کے بارے میں تفصیلی معلومات طلبہ کو پہلے سے مہیا کر دی جاتی ہے۔آخری امتحان میں کامیابی کے کم از کم نمبر 40 فیصد ہوتے ہیں۔آخری امتحان میں سوالات متعلقہ کورس کے تمام اسباق سے پوچھے جاتے ہیں۔

سمسٹر خزاں 2021 سے آخری امتحان میں ناکامی کی صورت میں کورس میں دوبارہ رجسٹریشن کروانا ہوگی۔اس کا طریقہ کار اور فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہوگا۔

شیڈول کے مطابق سمسٹر بہار کے امتحان نومبر کے پہلے ہفتے اور خزاں کے امتحان مئی کے پہلے ہفتے میں شروع ہوتے ہیں۔

(vi) کورس کا نتیجہ

کورس کا نتیجہ مرتب کرنے کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

(الف) امتحانی مشقوں اور آخری امتحان کے کل 100 نمبروں کی (Weightage) بالترتیب 70:30 ہے۔

(ب) آخری امتحان میں پاس ہونے کے لئے کم از کم 40 فیصد نمبر لینا ضروری ہیں جبکہ امتحانی مشقوں اور آخری امتحان میں مجموعی طور پر 40 فیصد نمبر لینا لازمی ہیں۔

3- شرح فیس

پروگرام رجسٹریشن فیس	داخلہ فیس	چھ کریڈٹ کورس فیس	تین کریڈٹ کورس فیس
50 امریکن ڈالر	50 امریکن ڈالر	75 امریکن ڈالر	75 امریکن ڈالر

3.1- فیس جمع کروانے کا طریقہ کار

انٹرنیشنل/بیرون ملک مقیم طلبہ وطالبات درج ذیل میں بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی فیس جمع کروائیں۔

۱۔ olpay.aiou.edu.pk درج ویب سائٹ پر کلک کریں

۲۔ چالان نمبر درج کریں اور سرچ کے بٹن پر کلک کریں

۳۔ دی گئی معلومات کا موازنہ اپنے چالان فارم کے ساتھ کریں اور درست ہونے کی صورت میں "Submit Fee" والے بٹن پر کلک کریں

۴۔ کریڈٹ کارڈ/ڈیبٹ کارڈ نمبر، کارڈ ہولڈر کا نام، ایکسپائری کی تاریخ اور CVV کوڈ (جو کارڈ کے پچھلے حصے پر درج ہوتا ہے) کا اندراج کریں

۵۔ "Pay Now" کے بٹن پر کلک کریں

۶۔ فیس کے جمع ہونے اور آرڈر آئی ڈی کا نوٹیفکیشن موصول ہوگا

۷۔ نیچے دی گئی جگہ پر آرڈر آئی ڈی اور ٹرانزیکشن کی تاریخ کا اندراج کریں

۸۔ اپنے داخلے کی تصدیق ہونے تک آرڈر آئی ڈی کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھیں

نوٹ: داخلہ فیس صرف پراسپیکٹس میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ادا کی جائے کسی دوسرے ذریعہ یا کسی شخص کو دی جانے والی فیس رقم کے لئے یونیورسٹی ہرگز ذمہ دار نہ ہوگی۔

فیس واپسی کے قواعد وضوابط

(i) درخواست دہندہ/ امیدوار/ طالب علم جنہوں نے داخلوں کے لیے اپنی فیس جمع کرائی ہے لیکن وہ جاری نہیں رکھنا چاہتے ہیں وہ AIOU کی ویب سائٹ پر دستیاب تعلیمی کیلنڈر کے مطابق اپنی پڑھائی کی مدت شروع ہونے سے پہلے فیس کی واپسی کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ان کی کل فیس 10% کٹوتی کے بعد واپس کردی جائے گی۔

(ii) درخواست دہندہ/ امیدوار جو اہل نہیں تھے لیکن داخلے کے لیے فیس جمع کراتے ہیں اور فیس جمع کرانے کی تاریخ سے ایک سال کے اندر واپسی کے لیے درخواست دیتے ہیں فیس کو کل فیس کے 15% کی کٹوتی کے بعد واپس کردیا جائے گا۔

(iii) جس طالب علم نے اپنی فیس مقررہ فیس سے زیادہ جمع کرائی ہے وہ کل اضافی رقم واپس کردی جائے گی یا جیسا بھی ہوا سے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔

(iv) محکمہ خزانہ طلباء کی فیس کی تصدیق کرے گا اور کیس کو آڈٹ ڈیپارٹمنٹ کو پری آڈٹ کے لیے بھیجے گا۔

(v) امیدوار کو چیک سینٹرل پیمنٹ سیکشن (CPS) خزانچی کا محکمہ جاری کرے گا۔

(vi) موت کی صورت میں تمام ضابطہ اخلاق کو پورا کرنے کے بعد، متوفی طالب علم کے خون کے رشتہ دار کے حق میں کراس چیک کے ذریعے پوری فیس واپس کردی جائے گی۔رقم کی واپسی کا کیس فیس جمع کرنے کے ایک سال کے اندر جمع کرانا ضروری ہے۔

(vii) ایسے طلباء جن کو یونیورسٹی کی طرف سے کم اندراج/ قابل عمل گروپ کی تشکیل نہ ہونے/کورسز کی پیشکش نہ کرنے کی وجہ سے یونیورسٹی کی طرف سے پیش کردہ پروگرام میں داخلہ کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو انہیں پوری فیس واپس کردی جائے گی۔

(viii) اگر کسی درخواست دہندہ/ امیدوار کا داخلہ یونیورسٹی کے کنٹرول سے باہر کسی وجہ سے یا غیر متوقع مسائل کی وجہ سے پختہ نہیں ہوتا ہے، تو پوری ادا شدہ فیس، بغیر کسی کٹوتی کے متعلقہ درخواست دہندہ/ امیدوار کو واپس کردی جائے گی۔رقم کی واپسی کا کیس فیس جمع کرنے کے ایک سال کے اندر جمع کرانا ضروری ہے۔

4- اہم معلومات

1- **تمام طلباءکوان کے اپنے مفاد میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو یونیورسٹی سے متعلقہ اپنے کسی بھی قسم کے مسائل کے حل کے سلسلے میں نقد رقم دینے سے اجتناب کریں اور کسی بھی قسم کے فراڈ یا جعل سازی کی صورت میں طالب علم خود ذمہ دار ہوگا اور یونیورسٹی کا ایسے کسی بھی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مزید برآں تمام طلباءکو ہدایت کی جاتی ہے کہ یونیورسٹی کے تمام قسم کے واجبات،فیس وغیرہ بذریعہ چالان مروجہ طریقہ کار کے تحت ہی جمع کروائیں۔**

2- علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ / ڈگریاں دیگر منظور شدہ یونیورسٹیوں اور بورڈ کے مساوی ہیں۔

3- امیدوار ہر لحاظ سے مکمل داخلہ فارم متعلقہ پروگرام کے لیے مع تصدیق شدہ تعلیمی اسناد اور ایک تصویر پراسپکٹس میں دی گئی ہدایات کے مطابق اپلوڈ کریں۔

4- داخلہ فارم میں اپنا نام، والد کا نام اور تاریخ پیدائش میٹرک کی سند کے مطابق درج کریں۔ غلط اندراج کی صورت میں درخواست دہندہ خود ذمہ دار ہوگا۔

5- سیکنڈری(SSC) میں انگریزی فیل یا بغیر انگریزی‘ اسلامیات لازمی اور مطالعہ پاکستان کے طلباء وطالبات کسی پروگرام میں داخلہ کے اہل نہ ہوں گے۔

6- ہائر سیکنڈری (HSSC) میں انگریزی فیل بغیر انگریزی اور اسلامیات لازمی کے طلبہ و طالبات کسی پروگرام میں داخلہ کے اہل نہ ہوں گے۔

7- دوران سمسٹر طالب علم کا پتہ تبدیل نہیں ہوگا۔

8- **مقررہ مدت میں پروگرام مکمل کرنے کے لیے لازم ہے کہ طلباء وطالبات ہر سمسٹر (مارچ،ستمبر) کی فیس یونیورسٹی کے مروجہ طریقہ کار کے مطابق جمع کروائیں۔ جاری طلبہ (Continuing Students) یونیورسٹی website (http://online.aiou.edu.pk) پر online انرولمنٹ فارم پُر کر کے فیس آن لائن طریقہ کار کے تحت جمع کرا سکتے ہیں۔**

9- کتابوں کے لفافے پر پتہ میں Student ID اور رجسٹریشن کا اندراج بھی ہے جسے نوٹ فرمالیں کیونکہ رجسٹریشن نمبر کا مع Student ID کورس کوڈ اور سمسٹر کا حوالہ یونیورسٹی کے ساتھ ہونے والی خط وکتابت میں دیا جانا ضروری ہے۔

10- درسی مواد موصول ہونے کے تقریباً پندرہ سے بیس دن کے اندر ہر کورس کے لئے نامزد کئے گئے ٹیوٹر کی معلومات CMS پورٹل میں فراہم کر دی جائیں گی۔ **اگر آپ کو ٹیوٹر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملتی تو آپ فوری طور پر Directorate of International Colaboration & Exchange سے رابطہ کریں** یا آپ اپنی امتحانی مشقیں بلا تاخیر ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے فراہم کردہ پورٹل پر اپلوڈ کریں۔

11- یونیورسٹی کے قواعد وضوابط میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں آسکتی ہیں اور طلبہ پر ان کی پابندی لازم ہے۔

12- پہلے سے داخل کسی پروگرام میں سپیشلائزیشن کی صورت میں طالب علم کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی کہ وہ دوران پروگرام کسی دوسرے پروگرام میں داخلہ لے اور نہ ہی ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام میں منتقل ہونے کی اجازت دی جائے گی جب تک وہ اپنے پہلے پروگرام کا داخلہ منسوخ نہ کرائے یا مکمل نہ کرلے۔

13- پروگرام کی کامیاب تکمیل کے بعد گروپ کی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔ طالب علم شعبہ امتحانات کو سرٹیفکیٹ/ ڈگری کے اجراء کے لئے درخواست دے گا۔

14- یونیورسٹی اپنی پالیسی کے مطابق پراسپیکٹس میں دیئے گئے مندرجات کو کسی پیشگی اطلاع کے بغیر تبدیل کرنے کا استحقاق رکھتی ہے۔

15- **اگر کوئی طالب علم ایک سمسٹر میں بیک وقت دو پروگراموں میں داخلہ لیتا ہے تو دونوں پروگراموں میں داخلہ منسوخ کیا جائے گا اور فیس بھی ضبط کی جائے گی۔**

18- ہر طالب علم کو مطلع کیا جاتا ہے کہ داخلہ کے آغاز سے لے کر سرٹیفکیٹ ڈگری کے اجراء تک کسی

بدعنوانی کے ارتکاب یا شرائط داخلہ کے سہواً یا عمداً نظرانداز کرنے/ ہونے کی صورت میں متعلقہ طالب علم کا داخلہ منسوخ اور فیس ضبط کی جائے گی نیز کسی قسم کے سرٹیفکیٹ یا ڈگری کا اجراء نہیں کیا جائے گا۔

20- میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں دیئے گئے نام اور ولدیت کو ہی درست تسلیم کیا جائے گا۔

21- درسی مواد موصول ہونے کے بعد اگر طالب علم محسوس کرے کہ نام ولدیت یا پتہ میں کوئی غلطی ہے یا کورس جو داخلہ فارم پر لکھا گیا تھا اس کے مطابق نہیں ہے تو فوری تصحیح کے لیے Directorate of International Colaboration & Exchange کو مطلع کریں۔ مطلع نہ کرنے کی صورت میں یونیورسٹی ذمہ دار نہ ہوگی۔

24- کورس میں تبدیلی صرف مطالعہ کی مدت (Study period) شروع ہونے سے قبل ممکن ہے۔ مطالعہ کی مدت (Study period) شروع ہونے کے بعد کورس میں تبدیلی کسی صورت ممکن نہیں ہوگی۔ مطالعہ کی مدت (Study period) کا شیڈول یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

25- کسی بھی طالب علم کی ڈگری/ ڈپلومہ/ سرٹیفکیٹ اجراء کے بعد مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر منسوخ کر دیا جائے گا۔

(i) اگر کسی بھی مرحلے پر نتیجہ کی تالیف یا اعلان میں کوئی غلطی پائی گئی۔

(ii) اگر کوئی بھی امیدوار کسی بھی موقع پر ڈگری/ ریزلٹ کی تصدیق کے وقت نااہل قرار پایا گیا۔

(iii) جعلی دستاویزات جمع کرائے ہوں۔

5- داخلہ، کتابیں، ڈیٹ شیٹ، رول نمبر سلپ اور رزلٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اہم فون نمبرز:

ڈائریکٹر ایڈمیشن: +92 51 9250043 , +92 51 9571501

کنٹرولر امتحانات: +92 51 9250012 , +92 51 9250013

ڈائریکٹر سٹوڈنٹس افیئرز: +92 51 9572400 , +92 51 9572401

DIRECTORATE OF INTERNATIONAL COLABORATION & EXCHANGE

☆ ڈاکٹر زاہد مجید (ڈائریکٹر انٹرنیشنل آفس)
+92 51 9572450
zahid_majeed@aiou.edu.pk

☆ سحرش خان (اسسٹنٹ ڈائریکٹر)
+92 51 9572471
sehrish.khan@aiou.edu.pk

☆ سردار محمد عجب (سپرینٹنڈنٹ)
+92 51 9572495
overseas@aiou.edu.pk